

تجرباتی زیر تحقیق فرد کے

حقوق کا بل

ذیل میں بیان کردہ حقوق ہر اس شخص کے حقوق ہیں جسے کسی تحقیقی مطالعہ میں شامل ہونے کو کہا جاتا ہے۔ ایک تجرباتی زیر تحقیق فرد کے بطور آپ کو مندرجہ ذیل حقوق حاصل ہیں:

- (1) یہ بتایا جائے کہ مطالعہ کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے،
- (2) یہ بتایا جائے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اور آیا کوئی طریقہ ہائے کار، دوائیں، یا آلات معیاری پریکٹس میں استعمال ہونے والوں سے مختلف ہیں،
- (3) تحقیق کے مقاصد کے لیے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے اکثر اور/یا اہم خطرات، ضمنی اثرات، یا بے آرامیوں کے متعلق بتایا جائے،
- (4) یہ بتایا جائے کہ کیا آپ شرکت کرنے سے کوئی فائدہ ہونے کی توقع رکھ سکتے ہیں، اور، اگر ایسا ہے تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے،
- (5) یہ بتایا جائے کہ آپ کے پاس اور کیا انتخابات ہیں اور وہ مطالعہ میں شامل ہونے سے بہتر یا بدتر کیسے ہو سکتے ہیں،
- (6) مطالعہ سے متعلق کوئی بھی سوالات پوچھنے کی اجازت دی جائے، شامل ہونے سے پہلے بھی اور مطالعہ کے عرصے کے دوران بھی،
- (7) یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی پیچیدگیاں ہو گئیں تو کس قسم کا طبی علاج دستیاب ہے،
- (8) شرکت کرنے سے سرے سے ہی انکار کر دیں یا مطالعہ شروع ہو جانے کے بعد شرکت کرنے کے بارے میں اپنا ذہن تبدیل کر لیں۔ یہ فیصلہ آپ کے اس نگہداشت کو موصول کرنے کے حق پر اثر انداز نہیں ہوگا جو آپ کو مطالعہ میں نہ ہونے کی صورت میں موصول ہوتی،
- (9) منظوری فارم کی ایک دستخط شدہ اور تاریخ ڈالی ہوئی نقل موصول کریں،
- (10) اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ کیا آپ مطالعہ میں شامل ہونے سے متفق ہونے کے/کی خواہش مند ہیں تو اس وقت دباؤ سے آزاد رہیں۔

آپ کا مطالعاتی ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آیا تحقیقی مطالعہ (Food and Drug Administration, FDA) کے ذریعے منضبط کیا جاتا ہے۔ اگر یہ مطالعہ ایف ڈی اے کی جانب سے Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) کے تحت منضبط کیا جاتا ہے تو ایف ڈی اے مطالعہ میں آپ کی شرکت سے متعلقہ تمام ریکارڈز کا معائنہ یا انہیں نقل کر سکتا ہے۔

اگر آپ کے دیگر سوالات ہیں تو آپ کو تحقیق کنندہ یا تحقیقی معاون سے پوچھنا چاہیے۔ مزید برآں، آپ ادارہ جاتی جائزہ بورڈ (آئی آر بی) سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو تحقیقی پروجیکٹس میں شرکت کنندہ کے تحفظ سے متعلق ہے۔ آپ سوموار تا جمعہ صبح 8:00 بجے سے شام 5:00 بجے تک (415) 476-1814 پر کال کر کے، یا UCSF Human Research Protection Program, Box 1288, 490 Illinois Street, Floor 6 San Francisco, CA 94143 خط لکھ کر، یا irb@ucsf.edu پر ای میل کر کے آئی آر بی کے دفتر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

ترجموں کے بارے میں معلومات کے لیے (415) 476-1814 پر کال کریں یا irb@ucsf.edu کو ای میل کریں۔